

1. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٠﴾ فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ۗ فَأَنْتُمْ تُصِرُّونَ ﴿١١﴾

کہئے کہ تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے یا (تمہارے) کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے اور بے جان سے جاندار کون پیدا کرتا ہے اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے۔ جھٹ کہہ دیں گے کہ اللہ۔ تو کہئے کہ پھر تم (اللہ سے) ڈرتے کیوں نہیں؟ ﴿١٠﴾ یہی اللہ تو تمہارا پروردگار برحق ہے۔ اور حق بات کے ظاہر ہونے کے بعد گمراہی کے سوا ہے ہی کیا؟ تو تم کہاں پھرے جاتے ہو۔ ﴿١١﴾ (10: Yunas\31-32)

Say: “Who is it that sustains you (in life) from the sky and from the earth? or who is it that has power over hearing and sight? And who is it that brings out the living from the dead and the dead from the living? and who is it that rules and regulates all affairs?” They will soon say, “Allah”. Say, “will you not then heed (to Him)?” ﴿١٠﴾ Such is Allah, your real Cherisher and Sustainer: after the truth, what (remains) but error? How then are you turned away? ﴿١١﴾ (10: Yunas\31-32)

2. قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُو الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ يَبْدُو الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَلْفَى تَوَفَّاكُونَ ﴿١٠﴾ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ مَنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدَىٰ ۗ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿١١﴾

(ان سے) پوچھئے کہ بھلا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ مخلوق کو ابتداً پیدا کرے (اور) پھر اس کو دوبارہ بنائے؟ کہہ دیں کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا تو تم کہاں اُسے جا رہے ہو ﴿١٠﴾ پوچھئے کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کون ایسا ہے کہ حق کا رستہ دکھائے۔ کہئے کہ اللہ ہی حق کا رستہ دکھاتا ہے۔ بھلا جو حق کا رستہ دکھائے وہ اس قابل ہے کہ اُس کی پیروی کی جائے یا وہ کہ جب تک کوئی اسے رستہ نہ بتائے رستہ نہ پائے۔ تو تم کو کیا ہوا ہے کیسا انصاف کرتے ہو؟ ﴿١١﴾ (10: f : 34-35)

Say: “Of your ‘partners’, can any originate creation and repeat it?”

Say: “It is Allah Who originates creation and repeats it: then how are you turned away (from the truth)?” ﴿١٠﴾ Say: “Of your ‘partners’ is there any that can give any guidance towards truth?” Say: “It is Allah Who gives guidance



and made a separating bar between the two bodies of flowing water? Can there be another God besides Allah? Nay, most of them know not. ﴿٦٤﴾ Or, Who listens to the (soul) distressed when it calls on Him, and Who relieves its suffering, and makes you (mankind) inheritors of the earth? Can there be another God besides Allah? Little it is that you heed! ﴿٦٥﴾ Or, Who guides you through the depths of darkness on land and sea, and Who sends the winds as heralds of glad tidings, going before His mercy? Can there be another God besides Allah? - High is Allah above what they associate with Him! ﴿٦٦﴾ Or, Who originates creation, then repeats it, and who gives you sustenance from heaven and earth? Can there be another God besides Allah? Say, "Bring forth your argument, if you are telling the truth!" ﴿٦٧﴾

(27: An-Naml\60-64)

4. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ ط أَنْظُرْ كَيْفُ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِمَنْ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿٦٤﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنْتُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٦٥﴾

(ان کافروں سے) کہدیں کہ بھلا دیکھو تو اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں پھر بخشنے؟ دیکھو ہم کس کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں۔ پھر بھی یہ لوگ رد گردانی کرتے ہیں ﴿٦٤﴾ کہتے کہ بھلا بتاؤ تو اگر تم پر اللہ کا عذاب بے خبری میں یا خبر آنے کے بعد آئے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ ﴿٦٥﴾ (6: 46/b-47)

Say: "See, if Allah took away your hearing and your sight, and sealed up your hearts, who - a God other than Allah - could restore them to you?" See how We explain the signs by various (symbols); yet they turn aside. ﴿٦٤﴾ Say: "See, if the punishment of Allah comes to you, whether suddenly or openly, will any be destroyed except those who do wrong? ﴿٦٥﴾

(6: Al-Ana'm\46-47)

5. الرَّحْمٰنُ ﴿٤٦﴾ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ﴿٤٧﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ﴿٤٨﴾ عَلَيْهِ الْبَيَانَ ﴿٤٩﴾ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٥٠﴾ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدُونَ ﴿٥١﴾ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٥٢﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٥٣﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٥٤﴾ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنْعَامِ ﴿٥٥﴾ فِيهَا فَاكِهَةٌ ﴿٥٦﴾ وَاللَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْحَامِ ﴿٥٧﴾ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ ﴿٥٨﴾ وَالرِّجْيَانُ فَيَأْتِي الْأَعْرَابَ ﴿٥٩﴾ نَكِّدًا ﴿٦٠﴾

(اللہ جو) نہایت مہربان ﴿﴾ اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی ﴿﴾ اسی نے انسان کو پیدا کیا ﴿﴾ اسی نے اس کو بولنا سکھایا ﴿﴾ سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں ﴿﴾ اور جھاڑیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں ﴿﴾ اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی ﴿﴾ کہ ترازو (سے تولنے) میں حد سے تجاوز نہ کرو ﴿﴾ اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو۔ اور تول کم مت کرو ﴿﴾ اور اسی نے خلقت کے لئے زمین بچھائی ﴿﴾ اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں ﴿﴾ اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول ﴿﴾ تو (اے گروہ جن و انس) تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ﴿﴾ (55: 1-13)

Allah Most Gracious! ﴿﴾ It is He Who has taught the Qur'an. ﴿﴾ He has created man: ﴿﴾ He has taught him speech. ﴿﴾ The sun and the moon follow courses computed; ﴿﴾ And the herbs and the trees - both prostrate in adoration. ﴿﴾ And the heaven has He raised it high, and He has set up the balance (of Justice), ﴿﴾ In order that you may not transgress balance. ﴿﴾ So establish weight with justice and fall not short in the balance. ﴿﴾ It is He Who has spread out the earth for creatures: ﴿﴾ Therein is fruit and date-palms, producing sheaths; ﴿﴾ Also the grain with its husk and scented plants. ﴿﴾ Then which of the favours of your Lord will you deny? ﴿﴾

(55: Ar-Rahm'an\1-13)

6. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرَ اللَّهِ يُدْعَى بِضِيَاءِ أَفْلاكِ تَسْمَعُونَ ﴿﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرَ اللَّهِ يُدْعَى بِأَنْبِيَاءِكُمْ بَلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفْلا تُبْصِرُونَ ﴿﴾

کہئے بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے دن تک رات (کی تاریکی) کئے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تم کو روشنی لادے تو کیا تم سنتے نہیں؟ ﴿﴾ کہئے تو بھلا دیکھو تو اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن کئے رہے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے کہ تم کو رات لادے جس میں تم آرام کرو۔ تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ ﴿﴾ (28: 71-72/x)

Say: See: If Allah were to make the night perpetual over you to the Day of Judgment, what God is there other than Allah, who can give you enlightenment? Will you not then hear? ﴿﴾ Say: Don't you see? If Allah were to make the day perpetual over you to the Day of Judgment, what God is there other than Allah, who can give you a night in which you can rest? Will you not then see? ﴿﴾ (28: Al-Qasas\71-72)

7. اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرِ صٰلٰتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلٰتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ﴿﴾

وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٤﴾

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور پر پھیلائے ہوئے جانور بھی۔ اور سب اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے سے واقف ہیں۔ اور جو کچھ وہ کرتے ہیں (سب) اللہ کو معلوم ہے۔ ﴿٢٤﴾

(24: t/٢٤)

Don't you see that it is Allah Whose praises all beings in the heavens and on earth do celebrate, and the birds with wings outspread? Each one knows its own prayer and praise. And Allah knows well all that they do. ﴿٢٤﴾ (24: An-Nur\ 41)

8. هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ﴿٢٥﴾ وَيَسْخِرُ الرِّعْدَ بِحَمْدِهِ وَالْمَلِئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ ۗ وَهُوَ شَدِيدُ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ ۗ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطٍ قَفِيءٍ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَهُ فَاتَهُ ۗ وَمَا هُوَ بِالْبَاسِطِ ۗ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿٢٧﴾ وَاللَّهُ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلْمُهُمُ بِالْغَدُوِّ وَالْأَصَالِ ﴿٢٨﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ قُلِ اللَّهُ ۗ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرَةُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ۗ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ۗ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۗ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿٢٩﴾

اور وہی تو ہے جو تم کو ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا اور بھاری بھاری بادل پیدا کرتا ہے ﴿٢٥﴾ اور رعد اور فرشتے سب اس کے خوف سے اس کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے گرا بھی دیتا ہے اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ اور وہ بڑی قوت والا ہے ﴿٢٦﴾ سو مند پکارنا تو اسی کا ہے اور جن کو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو کسی طرح قبول نہیں کرتے مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ (دور ہی سے) اس کے منہ تک آپنچے حالانکہ وہ (اس تک کبھی بھی) نہیں آسکتا اور (اسی طرح) کافروں کی پکار بیکار ہے ﴿٢٧﴾ اور جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہے خوشی سے یا زبردستی سے اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہے اور ان کے سائے بھی صبح و شام (سجدے کرتے ہیں) ﴿٢٨﴾ ان سے پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ کہئے کہ اللہ۔ پھر (ان سے) کہئے کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کیوں کارساز بنایا ہے جو خود اپنے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے (یہ بھی) پوچھئے کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہیں؟ یا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ بھلا ان لوگوں نے جن کو اللہ کا شریک مقرر کیا ہے۔ کیا انہوں نے اللہ کی ساری مخلوقات پیدا کی ہے جس کے سبب ان کو مخلوقات مشتبه ہو گئی ہے۔

کہہ دیں کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ کیاتا (اور) زبردست ہے۔ ﴿٢٩﴾ (13: i/12-1٦)

It is He Who does show you the lightning, by way both of fear and

of hope: It is He Who does raise up the clouds, heavy with (fertilizing) rain!  
 ☞ Thunder celebrates His praises, and so do the angels, with awe: He flings the loud-voiced thunder-bolts, and therewith He strikes whomsoever He will. Yet these (are the men) who (dare to) dispute about Allah, with the strength of His power (supreme)! ☞ For Him (alone) is prayer in truth: any others that they call upon besides Him hear them no more than if they were to stretch forth their hands for water to reach their mouths but it reaches them not: for the prayer of the unbelievers is nothing but (futile) wandering (in the mind). ☞ Whatever beings there are in the heavens and the earth do prostrate themselves to Allah (Acknowledging subjection), - willingly or unwillingly: so do their shadows in the morning and evenings. ☞ Say: "Who is the Lord and Sustainer of the heavens and the earth?" Say: "(It is) Allah." Say: "Do you then take (for worship) protectors other than Him, such as have no power either for good or for harm to themselves?" Say: "Are the blind equal with those who see? Or the depths of darkness equal with light?" Or do they assign to Allah partners who have created (anything) as He has created, so that the creation seemed to them similar? Say: "Allah is the Creator of all things: He is the One, the Supreme." ☞

(13: Al-R'ad\12-16)

9. **وَلَوْ يَوَّاخِدُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۚ وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ ۝**

اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب پکڑنے لگے تو ایک جاندار کو زمین پر نہ چھوڑے لیکن ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیئے جاتا ہے۔ جب وہ وقت آجاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں

☞

(۶۱/۱ : 16)

If Allah were to punish people for their wrong-doing, He would not leave, on the earth, a single living creature: but He gives them respite for a stated term: When their term expires, they would not be able to delay for a single moment, just as they would not be able to anticipate it. ☞ (16: An-Nahl\61)

10. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِبِخْلِهِ مَدَدًا ﴿١٠﴾

کہئے کہ اگر سمندر میرے پروردگار کی باتوں کے (لکھنے کے) لئے سیاہی ہو تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے اگرچہ ہم ویسا ہی اور (سمندر) اس کی مدد کو لائیں۔ ﴿١٠﴾

(109/n : 18)

Say: "If the ocean were ink (wherewith to write out) the words of my Lord, sooner would the ocean be exhausted than would the words of my Lord, even if we added another ocean like it, for its aid." ﴿١٠﴾

(18: Al-kahf\109)

11. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١١﴾

اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں (سب کے سب) قلم ہوں اور سمندر (کا تمام پانی) سیاہی ہو (اور) اس کے بعد سات سمندر اور (سیاہی ہو جائیں) تو اللہ کی باتیں (یعنی اس کی صفاتیں) ختم نہ ہوں۔ بیشک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ﴿١١﴾ (31: { 24/}

And if all the trees on earth were pens and the ocean, with seven oceans behind it to add to it (were ink), yet would not the words of Allah be exhausted: for Allah is Mighty, Wise. ﴿١١﴾

(31: Luqman\27)

12. وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ﴿١٢﴾

اور اگر اللہ کی نعمتیں گننے لگو تو شمار نہ کر سکو۔ ﴿١٢﴾ (14: j/ 33)

But if you count the favours of Allah, never will you be able to number them. ﴿١٢﴾ (14: Ibrahim\34)